

تحفظ بچگان کی تعلیم والدین اور نگرانوں کے لیے معلومات

سکول کا نام
Name of school

تعلیمی پروگرام میں شریک درجہ/درجات
Participating Year/s

فی ہفتہ اسباق
Number of lessons per week

سکول میں رابطہ شخص
School contact person

رابطہ شخص کا فون نمبر
Contact telephone number

محترم والدین اور نگران خواتین و حضرات

اس سال مندرجہ بالا درجات کے طالب علم ذاتی نشوونما، صحت اور فزیکل ایجوکیشن (PDHPE) (Personal Development, Health and Physical Education) کے لازمی مضمون میں شریک ہوں گے۔

ہمارے سکول کے PDHPE پروگرام میں تحفظ بچگان کی لازمی تعلیم شامل ہے۔ تحفظ بچگان کی تعلیم میں پڑھایا جانے والا کچھ مواد حساس معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ سکول عمر کے لحاظ سے مناسب انداز میں یہ مواد پڑھائے گا۔

اگلے صفحے پر وہ مخصوص مواد دکھایا گیا ہے جو تحفظ بچگان کی تعلیم میں شامل ہو گا۔

تحفظ بچگان کی تعلیم کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی PDHPE ویب سائٹ پر [Child protection and respectful relationships education](#) (تحفظ بچگان اور احترام پر مبنی رشتوں کی تعلیم) کا حصہ دیکھیں۔

اس ٹرم میں تحفظ بچگان کی تعلیم کے فی ہفتہ اسباق کی تعداد اوپر دکھائی گئی ہے۔ اگر آپ مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی سکول کے اس رابطہ شخص سے رابطہ کریں جس کا نام اور فون نمبر اوپر لکھا ہے۔

ٹیلیفون انٹریپرٹ سروس

اگر آپ کو سکول سے رابطہ کرنے کیلئے انٹریپرٹ (زبانی مترجم) کی مدد درکار ہے تو براہ مہربانی 13 14 50 پر ٹیلیفون انٹریپرٹ سروس کو فون کریں اور اپنی زبان کا انٹریپرٹ مانگیں۔ آپریٹر سکول کو فون کرے گا اور بات چیت میں مدد کے لیے فون لائن پر انٹریپرٹ مہیا کر دے گا۔ آپ سے اس سروس کا معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔

نیک تمناؤں کے ساتھ

پرنسپل (Principal)

تحفظ بچگان کی تعلیم میں پڑھائے جانے والے مواد میں یہ شامل ہے:

The content which will be covered in child protection education includes:

(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 4 content.)

دوسروں کا خیال رکھنے والے اور احترام پر مبنی تعلقات
Caring and respectful relationships

مختلف رشتوں میں حقوق اور فرائض
Rights and responsibilities in different relationships

بدسلوکی اور طاقت
Abuse and power

صنفی سٹیریوٹائپس (گھسے پٹے تصورات)
Gender stereotypes

محفوظ اور غیر محفوظ صورتحال میں اپنے جسمانی ردعمل پر بھروسا کرنا
Trusting your body's response to safe and unsafe situations

طاقت اور تعلقات پر خاندان، میڈیا اور ہم عمروں کا اثر
Influence of family, media and peers on power and relationships

مدد کیسے حاصل کی جائے
How to access help

امدادی نیٹ ورکس
Support networks

بُلنگ اور دوسروں کو ستانا، نیز ہم جنس پرستوں کے ساتھ بُلنگ اور نسل پرستانہ رویہ
Bullying and harrasment, including homophobic bullying and racism

محفوظ رہنے کے طریقے
Protective strategies to stay safe

رومانوی و جنسی تعلقات میں رضامندی کا اعتراف اور سمجھ
Acknowledging and understanding consent in intimate relationships